



## قومی خواتین کرکٹ ٹیم جمعہ کو عالمی کپ میں انگلینڈ سے نبرد آزما ہوگی

- میچ پاکستانی وقت کے مطابق 28 فروری کی دوپہر ایک بجے کینبرا میں کھیلا جائے گا
- ویسٹ انڈیز کے خلاف کامیابی کے بعد ٹیم کے حوصلے بلند ہیں، انگلینڈ کو ٹف ٹائم دیں گے، جویریہ خان

کراچی، 27 فروری 2020ء:

آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈکپ 2020 میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا میچ انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم کے خلاف کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ 28 فروری بروز جمعہ کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے کینبرا میں شروع ہوگا۔

اس سے قبل بدھ کے روز پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈکپ 2020 کا فاتحانہ آغاز کیا تھا۔ میچ میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی جانب سے ڈیانا بیگ، ندا ڈار اور ایمن انور نے عمدہ باؤلنگ کرتے ہوئے حریف ٹیم کو 123 رنز پر ڈھیر کر دیا تھا۔

مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹرز جویریہ خان، بسمہ معروف اور منیبہ علی نے عمدہ بیٹنگ کر کے ٹیم کو باسانی 8 وکٹوں سے فتح دلائی تھی۔ جویریہ خان کو شاندار کارکردگی کی بدولت پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ جویریہ خان نے میچ میں 28 گیندوں پر 35 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔

**جویریہ خان:**

جویریہ خان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے میچ میں عمدہ کارکردگی پر خدا کا شکر ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں کامیابی کی بڑی وجہ ٹیم میں شامل تمام کھلاڑیوں کا یکجا ہو کر کھیلنا تھا اور یہی پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا خاصا ہے۔

جویریہ خان نے مزید کہا کہ پہلے میچ میں باؤلرز نے حریف ٹیم کو جلد آؤٹ کر کے دباؤ کا شکار کر دیا تھا جس کا بیٹرز نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جویریہ خان نے کہا کہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں وقت کم ہوتا ہے لہذا جو ٹیم اپنی حکمت عملی کے مطابق کھیلتی ہے، کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں کامیابی کے باعث پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے حوصلے بلند ہیں اور تمام کھلاڑی انگلینڈ کے خلاف میچ میں شاندار کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تجربہ کار بیٹر کا کہنا تھا کہ وہ انگلینڈ کے خلاف میچ میں پاکستان کو فتح دلا کر تاریخ رقم کرنے کی کوشش کریں گی۔

ایونٹ 21 فروری سے 8 مارچ تک آسٹریلیا کے چار شہروں، سڈنی، پرتھ، کینبرا اور میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کا فائنل عالمی یوم خواتین کے موقع پر میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔

قومی خواتین کرکٹ ٹیم میگا ایونٹ کے گروپ بی کا حصہ ہے۔ گروپ بی میں شامل دیگر ٹیموں میں انگلینڈ، جنوبی افریقہ، تھائی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ویمنز ٹیمیں شامل ہیں۔

انگلینڈ کے خلاف میچ کھیلنے کے بعد قومی خواتین کرکٹ ٹیم سڈنی روانہ ہو جائے گی جہاں وہ یکم مارچ کو جنوبی افریقہ اور 3 مارچ کو تھائی لینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی۔

### اسکواڈ:

بسمہ معروف (کپتان)، ایمن انور، عالیہ ریاض، انعم امین، عائشہ نسیم، ڈیانہ بیگ، فاطمہ ثناء، ارم جاوید، جویریہ خان، منیبہ علی، ندا ڈار، عمیمہ سپیل، سعدیہ اقبال، سدرہ نواز (وکٹ کیپر) اور سیدہ عروب شاہ۔

### آفیشلز:

سید اقبال امام (ہیڈ کوچ)، سلیم جعفر (باؤلنگ کوچ)، عامر اقبال (فیلڈنگ کوچ)، جمال حسین (اسٹریٹھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ)، ڈاکٹر رفعت اصغر گل (فزیو)، عائشہ جلیل (منیجر) اور زبیر احمد (اینالسٹ)۔

### شیڈول:

28 فروری بروز جمعہ: پاکستان ویمنز بمقابلہ انگلینڈ ویمنز بمقام کینبرا  
یکم مارچ بروز اتوار: پاکستان ویمنز بمقابلہ جنوبی افریقہ ویمنز بمقام سڈنی  
3 مارچ بروز منگل: پاکستان ویمنز بمقابلہ تھائی لینڈ ویمنز بمقام سڈنی

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)